



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Ordinary Level

SECOND LANGUAGE URDU

3248/02

Paper 2 Language Usage, Summary and Comprehension

October/November 2008

1 hour 45 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper



READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Answer **all** questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

مندرجہ ذیل ہدایات غور سے پڑھیے۔

اگر آپ کو جواب لکھنے کی کاپی ملے تو اس پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

تمام پرچوں پر اپنا نام، سینٹر نمبر اور امیدوار کا نمبر لکھیں۔

صرف نیلے یا کالے رنگ کا قلم استعمال کریں۔

شپیل، گوند، ٹپ ایکس، وغیرہ کا استعمال منع ہے۔

لغت (ڈکشنری) استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ہر سوال کا جواب دیں۔

اپنے جوابات اردو میں تحریر کریں۔

اس پرچے میں ہر سوال کے مارکس بریکٹ میں دیئے گئے ہیں: []

آپ کا ہر جواب دی گئی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔

اگر آپ ایک سے زیادہ جوابی کاپیوں کا استعمال کریں، تو انہیں مغضوبی سے ایک دوسرے سے نبھی کریں۔

This document consists of **9** printed pages and **3** blank pages.



PART 1: Language Usage

Vocabulary

- نچے دیئے ہوئے الفاظ سے اردو میں مکمل جملے بنائیں۔
- 1 تین جملے اس طرح بنائیں، جن سے نیچے دیئے ہوئے الفاظ کے معنی واضح ہو جائیں۔
- [3] لقدر آزمانا۔ زخموں پر نمک چھڑکنا۔ ٹھوکریں کھانا
- 2 دو جملے اس طرح بنائیں، جن سے نیچے دیئے ہوئے الفاظ کے معنوں میں فرق واضح ہو جائے۔
- [2] ہاتھ پھیلانا۔ ہاتھ دھوکر پیچھے پڑانا

Sentence Transformation

- نیچے دیئے گئے جملوں کو فعلِ ماضی (Past tense) میں تبدیل کریں۔
اپنے جواب کی کاپی (Answer Booklet) میں لکھیے۔

مثال: آج خالہ جان کے یہاں ہماری دعوت ہے۔
کل خالہ جان کے یہاں ہماری دعوت تھی۔

- 3 آج موسم بہت خوشگوار ہے۔
- [1].....
- 4 تصویروں کی نمائش دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
- [1].....
- 5 باور پی خانے سے کھانا جلنے کی بوآری ہے۔
- [1].....
- 6 ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھیں گے۔
- [1].....
- 7 اپنی جلد بازی میں وہ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔
- [1].....

Cloze Passage

خالی جگہوں کو پُر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔
سوال نمبر 8 سے 12 تک خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ پھین کر جواب کی کاپی (Answer Booklet) میں ترتیب سے لکھیں۔

کوئی بھی کہانی صرف ایک کہانی ہی نہیں ہوتی بلکہ کئی کہانیوں کا 8 ہوتی ہے۔
اکثر اس کہانی کا اختتام ایک اور کہانی کو جنم دیتا ہے اور مزید کہانیوں کی 9 ہوتی ہے۔
ان میں سے کچھ تلنے، کچھ کھٹھٹی میٹھی اور کچھ 10 واقعات سے بھر پور ہوتی ہیں۔ کہانیوں کو چننے میں پڑھنے والے کے ذوق کا بڑا 11 ہوتا ہے۔ انہیں پڑھنے سے لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اپنی اُجھنوں سے 12 تو پاتے ہیں۔

چاہست - اصلی - شروعات - پرانی - نجات - نفرت - سمجھنا - طریقہ -
احساس - پُر اسرار - ایجاد - عمل دخل - حیران - تکلیف - مجموعہ -

PART 2: Summary

نیچے دی گئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو، اپنے الفاظ میں لکھیں۔

کیلا ایک ایسا پھل ہے جو دنیا کے ہر نظرے میں یکساں مقبول ہے۔ اس کا درخت 8 سے 18 فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور تار دوسرے درختوں کی طرح لکڑی کی مانند سخت نہیں ہوتا۔ اس میں پتوں کے علاوہ کوئی شاخ نہیں ہوتی۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ بعض بڑے اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض میں بیج ہوتے ہیں اور بعض میں بالکل نہیں ہوتے۔ رنگت میں کچھ پیلے، کچھ ہرے اور کچھ لال ہوتے ہیں۔ کیلا غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں کیلیشیم، میگنیزیم، فاسفورس، گندھک، فولاد اور آئینوڈین خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں پروٹین اور چربی کم ہوتی ہے جبکہ نشاستہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جسم کو توانائی دیتا ہے۔

طبی لحاظ سے کیلا کئی خوبیوں کا حامل ہے اور کئی امراض کے لیے مفید ہے، خصوصاً پچش کے لیے۔ اس کے درخت کے تمام حصے دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلاً کیلے کی جڑ، پھلیاں اور پتے وغیرہ۔ کھانی خواہ تشك ہو یا بلغمی، کہتے ہیں کہ اس کے نشک پتے کو جلا کر تھوڑا سا نمک ملا کر چٹانے سے دور ہو جاتی ہے۔ قدیم زمانے سے خواتین رنگ کو نکھارنے اور داغ دھبے دور کرنے کے لیے اس کے گودے میں خربزوں کے بیج پیس کر چہرے پر لیپ کرتی رہی ہیں۔

سانپ کے زہر کو زائل کرنے کے لیے پرانے زمانے میں حکیم درخت کے تنے کا رس نکال کر فوراً مریض کو پلا دیا کرتے تھے جس سے زہر کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ طبی علم کے مطابق سانپ کیلے کے درخت کے قریب نہیں جاتے سوائے ایک خاص قسم کے سانپ کے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سانپ کا زہر ختم کرنے کا کوئی جز موجود ہے۔

آج کل کیلے کے درخت میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو رہی ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ پھل مستقبل میں ناپید نہ ہو جائے۔

اوپر دی گئی عبارت کو پڑھ کر اشاروں کی مدد سے تقریباً سو الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو، اپنے الفاظ میں لکھیے ۔

بناوٹ/ساخت (i) 13

غذائیت (ii)

بطوردوا (iii)

چلد کا نکھار (iv)

کیلے کا مستقبل (v)

[10]

PART 3: Comprehension

Passage A

درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

قلوپٹرہ کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ فلموں اور رومانی ناولوں نے اسے ایک حسین ملکہ کے روپ میں پیش کیا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شکل و صورت تو اُسکی معمولی تھی لیکن خدادادِ ذہانت اور علمی قابلیت نے اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ فلسفہ، ادب، موسیقی، مصوری اور طب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اُسے چھ زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا۔ وہ اپنے اندازِ گفتگو سے دوسروں کا دل موجہ لیتی تھی۔

حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دریائے نیل میں پانی کم ہونے کے باعث ملک کو قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی اس کے زوال کا سبب بنا۔ اُس کے بھائی نے جو مصر پر تہاں حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، رعایا کو قلوپٹرہ کے خلاف کر کے اُسے مصر چھوڑ کر شام جانے پر مجبور کر دیا۔

رومی حکمران سیزر نے مصر میں داخل ہوتے ہی قلوپٹرہ اور اُس کے بھائی کو حاضری کا حکم دیا۔ اُس کا مقصد ان دونوں میں مصالحت کروانے کا تھا۔ قلوپٹرہ کو بخوبی اندازہ تھا کہ اُس کا بھائی اُس کو قتل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے اس نے خود کو ایک قالین میں پیٹ کر اپنے آپ کو سیزر کے سامنے پیش کیا۔ جس انوکھے انداز سے وہ قالین میں سے نکلی اُسے دیکھ کر سیزر مسحور ہو گیا۔

قلوپٹرہ کو جب سکون سے حکومت کرنے کا موقعہ ملا تو اُس نے اپنے رفاقتی کاموں سے رعایا کا دل جیت لیا۔ کسانوں کے ٹیکس معاف کیے جس سے کاشت میں اضافہ اور ملک کی خوشحالی میں استحکام پیدا ہوا۔ عوام کا خلوص اور وفاداری حاصل کرنے کے لیے اُس نے عوامی زبان میں گفتگو کو اپنایا۔ پہلے حکمران ایسا نہیں کر پائے۔

اپنے شوہر انٹونی کی موت کے بعد زندگی سے دل برداشتہ ہو کر کئی دفعہ اُس نے خود گشی کی کوشش کی۔ آخر کار اس مقصد کے لیے اُس نے خود ایک زہر لیے سانپ کا انتخاب کیا جو اُس کی موت کا سبب بنا۔

اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

- [2] 14 فلموں اور کہانیوں سے اس کا جوتا ثرملتا ہے وہ حقیقت سے کس حد تک مختلف ہے؟
- [3] 15 دریائے نیل میں پانی کی کمی کا اثر ملک اور ملکہ دونوں پر کیسے پڑا؟
- [2] 16 سیزرا نے قلوپطہ کو کیوں بلوا�ا اور اس کے آنے کا اس پر کیا اثر پڑا؟
- [3] 17 اُس نے کس طرح اپنی رعایا کا دل جیتا؟
- [2] 18 اس کی خودگشی کی وجہ کیا تھی اور کس طرح اس میں کامیاب ہوئی؟
- [3] 19 عبارت سے آپ کو قلوپطہ کی شخصیت کا کیا تاثر ملتا ہے؟

Passage B

درج ذیل عبارت کو پڑھیے پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

زمانہ قدیم سے انسان تفریح کا سامان ڈھونڈتا آیا ہے۔ پہلے زمانے میں گاؤں کے لوگ رات کا کھانا کھا کر دن بھر کی تھکن دور کرنے چوپال میں جمع ہوجاتے تھے۔ ماہر قصہ خواں موجود ہوتا تھا۔ کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ کچھ فرضی ہوتی تھیں اور کچھ حقیقی۔ پشاور کا بازارِ قصہ خوانی آج بھی بیتے دنوں کی یاد دلاتا ہے۔ رات کو بچے سونے سے پہلے دادی اماں کے گرد گھیرا ڈلتے۔ کہانی کی شروعات ”کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ“ نئھے مئے بچوں کی دلوں میں تجویز اور اشتیاق کی لہر دوڑا دیتی۔ کہانی خواہ فرضی ہو یا اصلی۔ دادی اماں کی زبانی ہو یا قصہ خواں کی۔ ایک بات طبعی کہ اچھائی کا انعام اور بُراً کی سزا ضرور ملے گی۔ اس طرح کہانی نہ صرف ذہنی تفریح مہیا کرتی بلکہ اصلاحی پہلو بھی رکھتی تھی اور ایک دوسرے کو قریب لانے کا ذریعہ بھی تھی۔

پھر کہانیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ تھیٹر، فلمیں اور ٹیلی ویژن وجود میں آئے اور اب کمپیوٹر کا دور ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ لگتا ہے پوری دنیا ایک ڈبے میں سمٹ آئی ہو۔ کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہیں، بحث مباحثہ میں حصہ لینا چاہیں، پیغام بھیجننا یا راستہ معلوم کرنا چاہیں۔ صرف ٹین دبانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کیلئے بھی نہ صرف معلوماتی بلکہ دماغی نشوونما اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھانے والے گیمز ہیں۔

اس کے ساتھ نقصانات کی فہرست بھی طویل ہے۔ مسلسل استعمال سے خصوصاً بچوں میں جسمانی نقصان پیدا ہونے اور بینائی پر اثر پڑنے کے قوی امکانات ہیں۔ بچے اُن تجربات سے بھی محروم رہتے ہیں جو ان کی نشوونما کا اہم حصہ ہیں، مثلاً ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کو، کتابوں کا مطالعہ، وغیرہ۔ اس کے علاوہ غلط ویب سائٹس اخلاقی اقدار و کردار پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ نئی ایجادات فائدہ مند کم اور نقصان دہ زیادہ ثابت ہوتی ہیں۔

اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

- [2] 20 گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا کیا ذریعہ تھا؟
- [2] 21 کہانیاں اصلاحی پبلوکس طرح رکھتی تھیں؟
- [2] 22 قصہ خوانی کافن کیوں ختم ہوا؟
- [3] 23 کمپیوٹر کو حیرت انگیز ایجاد کیوں کہا گیا ہے؟ کوئی تین باتیں لکھیے۔
- [3] 24 کمپیوٹر بچوں کی نشوونما پر کیا منفی اثرات ڈال سکتا ہے؟
- [3] 25 نئی ایجادات کے بارے میں مصنف کی رائے سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.